

الذی سے کچھ حرام چیزیں خرید لیں اب کیا کروں  
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں  
کہ میں نے انجانے میں ایسی کچھ چیزیں الذی خرید لیں جو حرام اجزاء والی تھی،  
کیا میں اسے کوڑا دان میں پھینک دوں یا کسی غیر مسلم ہمسائے یا دوست کو دے  
دوں؟

سائل حسنین انگلینڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

جس کھانے میں حرام اجزاء ملے ہوئے ہوں وہ خود کھانا بھی حرام ہے اور غیر مسلم  
کو دینا بھی درست نہیں لہذا اسے واپس کر دیا جائے اور اگر واپسی ممکن نہیں تو  
پھینک سکتے ہیں۔ کیونکہ حُرْمَات میں کفار بھی مسلمانوں کی طرح احکام کے مکلف  
اور خطابِ الہی کے مخاطب ہیں۔

جیسا کہ بحر الرائق شرح کنز الدقائق میں مذکور ہے

ترجمہ کفار

لِأَنَّ

حُرْمَات میں خطابِ الہی کے مخاطب ہیں اور یہی ہمارے اصحاب کا صحیح مذہب  
ہے۔

البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج 6، ص 77، الناشر دار الكتاب الإسلامي

اور علامہ کمال الدین ابن ہمام رحمہ اللہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں

ترجمہ کفار بالاجماع حُرْمَات کے مخاطب  
وَالْكُفَّارُ

ہیں۔

فتح القدیر، باب استیلاء الکفار، ج 6، ص 4، الناشر دار ابن کثیر، دار الكلم الطیب

دمشق، بیروت

نیز بدائع الصنائع میں علامہ کاسانی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں

أَنَّ حُرْمَةَ الرَّبِّ كَمَا هِيَ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ فَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ؛ لِأَنَّهُمْ

مُخَاطَبُونَ بِالْحُرْمَاتِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْأَقْوَالِ۔ ترجمہ سود کی حرمت جس طرح

مسلمانوں کے حق میں ثابت ہے کفار کے حق میں بھی ثابت ہے کیونکہ صحیح قول

کے مطابق کفار بھی حُرْمَات کے مخاطب ہیں۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 5، ص 192، الناشر دار الكتب العلمية

صدر الشريعة مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ بہار شریعت میں بحوالہ

ہدایہ فرماتے ہیں

کافر یا بچہ کو شراب پلانا بھی حرام ہے اگرچہ بطور علاج پلائے اور گناہ اسے

پلانے والے کے ذمہ ہے۔

بہار شریعت، ج 3، ص 672

ذکر کردہ اصول و جزئیات کی بنیاد پر کافر کو کھانے کیلئے حرام شے دینا بھی درست نہیں۔

وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ز عیم احسن

Date:02-05-2020

الجواب صحیح و المجیب نجیح

ابو الحسن محمد قاسم ضیاء

قادری

خادم دارالافتاء الفقه الاسلامی یو کے

Date:25-05-2020

I have bought some Harām things from Aldi, what should I do now?

أُحْمَدُ بِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

**QUESTION:**

**What do the scholars of Islām and Jurists of the Sacred Law state regarding the following issue: I unconsciously bought a few such things from Aldi which contain Harām ingredients. Should I dispose of these in the bin or should I give them to a non-Muslim acquaintance/friend?**

Questioner: Hasanayn from England

**ANSWER:**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

It is also Harām to eat the food itself which contains Harām ingredients, nor is it correct to give this to non-Muslims either; hence, the item(s) should be returned. And if a return is not possible, then one may dispose of such because non-Muslims are also bound by rulings just as Muslims are in relation to unlawful matters and they are addressed by the Divine Speech of Allāh.

Just as it is mentioned in al-Bahr al-Rā'iq Sharh Kanz al-Daqā'iq,

"-

لِأَنَّ

“Non-Muslims are also addressed (in terms of Divine Speech) in regards to unlawful matters and it is this that is the correct stance of our scholars.

[al-Bahr al-Rā'iq Sharh Kanz al-Daqā'iq, vol. 6, p. 77]

And ‘Allāmah Kamāl al-Dīn son of Humām - may Allāh have mercy upon him - states in Fat’h al-Qadīr,

"-

وَالْكَفَّارُ

“It is by consensus that non-Muslims are addressed in relation to unlawful matters.”

[Fat’h al-Qadīr, vol. 6, p. 4]

Also, ‘Allāmah Kāsāni Hanafī - may Allāh have mercy upon him - writes in Badā'i' al-Sanā'i',

”أَنَّ حُرْمَةَ الرَّبَا كَمَا هِيَ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ فَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ؛ لِأَنَّهُمْ  
مُخَاطَبُونَ بِالْحُرْمَاتِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْأَقْوَالِ.“

“Just as the unlawfulness of interest is established for Muslims, it is also established for non-Muslims as well because according to the correct stance, non-Muslims are also addressed in unlawful matters.”

[Badā'i' al-Sanā'i' Fī Tartīb al-Sharā'i', vol. 5, p. 192]

Sadr al-Sharī'ah Muftī Muhammad Amjad 'Alī A'zhamī - may Allāh have mercy upon him - states in Bahār-e-Sharī'at referencing al-Hidāyah, 'It is also unlawful to give alcohol to a non-Muslim or child to drink, even if it is given to drink for treatment purposes on medical grounds, and the sin is the responsibility of the one giving it to them to drink.”

[Bahār-e-Sharī'at, vol. 3, p. 672]

On the basis of the aforementioned principles and Islamic jurisprudential rulings, giving consumable Harām items to a non-Muslim is also not correct.

والله تعالى أعلم ورسوله أعلم صلى الله عليه وآله وسلم  
كتبه أبو الحسن محمد قاسم ضياء القادري

**Answered by Mawlānā Za'im Ahsan**

**Verified & attested by Muftī Qāsim Ziyā al-Qādirī**

Translated by Haider Ali